

- Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لابور شہر سیاست بی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز بے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ ابل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المجبوب کے مصنف حضرت علی بجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون بیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لابور کا فیشن پورے بندوستان میں رانچ بوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی ابیت کم نہیں ہوئی۔

Translation.

Q: Translate the following paragraph into English by keeping in view figurative / Idiomatic expressions. (10)

Translation.

The city Lahore is not only the place of politics but also an ancient nucleus of culture. Mughal's culture experienced its zenith in this city. It was the heart of Sikh's culture too. The knowledge of literature also became a share of this city. It served as a hub of mystic people too. Hazrat Ali Hajveri, an author of renowned mystic book, "Kashful Mahjoob", is also buried in the same city during British dominion, the fashion of

Lahore was implemented
to the entire Hindustan.
Verily, the creation of
Pakistan couldn't suppress
the importance of this
city.